

قرآن مجید کا ہندی ترجمہ

از جناب نندکار صاحب اسٹھی - تقطیع کلال
ضخامت ایک ہزار تیس صفحات، کتابت و

طبع انتہا بہتر فہمیت ۳۶/۔ پتہ : نیپالی پریس، رائے کرڑہ، لکھنؤ ۳۔

اسٹھی جی ہندی زبان کے مشہور مصنف اور مقالہ فکار ہیں لاٹ مبارک بخاری میں کہ انھوں نے سالہائے دراٹکی مسلسل مختت و کاوش کے بعد آخر قرآن مجید کا ہندی ترجمہ کامل کر کے شائع کر دیا۔ ترجمہ کی زبان اس قدر سہل ہے کہ گویا اگرچہ رسم الخط دیوناگری ہے لیکن زبان ہندوستانی ہے۔ ترجمہ کے ساتھ تشریحی لفظ بھی ہیں۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ترجمہ و تشریح کے معتبر و مستند ہونے کی دلیل اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ایک ذمہ دار عالم اور ہندی کے فاعل مولانا مفتی محمد صدیق صاحب دار المبلغین لکھنؤ نے ترجمہ و تشریح کا ایک لفظی طریقہ احتیاط اور توجہ سے پڑھا ہے اور اس کے بعد انھوں نے لکھا ہے کہ: "محجد کو پورا اطمینان ہے کہ یہ ترجمہ صحیح اور قابل اعتماد ہے۔ مستند مفسرین کے ترجموں اور تفسیر کے مطابق ہی ہندی میں ترجمہ اور تفسیری لفظ لکھے گئے ہیں؛ مولانا کی یہ تحریر اور مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا پیش لفظ دنوں مشرد ع میں درج ہیں۔ بھپر لاٹ مترجم نے صرف ترجمہ اور تشریح و تفسیر پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ قرآن مجید کے اصل عربی متن کے ساتھ اس متن کو ہندی رسم الخط میں بھی لکھا ہے اس سلسلہ میں ان کا بڑا کام یہ ہے کہ چونکہ عربی میں وہ حروف جو اسی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو صحیح فخارج کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہندی میں پہلے نہ حروف موجود نہیں اور نہ اصطلاحات، اسی بناء پر فاضل مترجم نے ہندی رسم خط میں کچھ ایسے اضافے کیے اور اسی اصطلاحات مقرر کیے ہیں جن سے عربی حروف کو ان کے صحیح فخارج کے ساتھ ہندی میں ادا کرنے کی ڈسواہی حل ہو سکے۔ ظاہر ہے یہ کام انتہائی صعبہ آزما اور محنت طلب ہے لیکن فاصل مترجم اس منزل سے بھی بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ گذر گئے ہیں۔ امید ہے کہ امبابوں ذوق